



درخواست فارم

EmPower+

EmPower+ کی جانب سے کم اور اوسط آمدنی والے گھروں کو توانائی کی بہتری کے لیے مراعات فرایم کی جاتی ہیں۔ اس درخواست کے ذریعہ آپ کی گھریلو آمدنی کی بنیاد پر ان مراعات کا تعین کیا جائے گا جن کے لیے آپ اپل بیں۔

مندرجہ ذیل درخواست فارم میں درج کردہ معلومات سے اس بات کا تعین کرنے میں مدد ملے گی کہ آپ کے لیے کون سی خدمات اور پروگرام زیادہ مناسب ہیں۔ بعض صورتوں میں، کم آمدنی والے گھروں کو موسمیاتی امداد کے پروگرام (WAP) کی ایجنسیاں کی طرف سے خدمات فرایم کی جاتی ہیں۔ ان صورتوں میں، اس درخواست کو WAP کی درخواست کے طور پر شمار کیا جائے گا اور ان خدمات کے لیے اسے آپ کی مقامی ایجنسی کے پاس بھجوی جا سکتی ہے۔ براہ کرم واضح طور پر درج کریں اور زیادہ سے زیادہ معلومات فرایم کریں۔ اس درخواست کو درج ذیل ویب سائٹ پر ان لائن مکمل کیا جاسکتا ہے: nyserda.ny.gov/empower-apply۔ اس درخواست کو آن لائن مکمل کرنا NYSERDA کے ذریعہ آپ کی درخواست کا جائزہ لینے اور اسے منظور کرنے کا تیز ترین طریقہ ہے۔

اس چیک لسٹ سے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ آپ کی درخواست پر بروقت کارروائی کی جائے گی۔ جب آپ یہ یقینی بنالیں کہ درخواست کے تمام حصے مکمل ہو گئے ہیں، اور مطلوبہ دستاویزات فرایم کر دی گئی ہیں، تو براہ کرم مناسب باکس میں ✓ کا نشان لگائیں۔ درخواستوں پر پہلے آؤ پاؤ کی بنیاد پر کارروائی کی جاتی ہے۔

عام درخواست دیندہ کی معلومات (سیکشن A, B اور C) - یہ تصدیق کرلیں کہ تمام مطلوبہ خانے مکمل ہو گئے ہیں (الا یہ "اختیاری" نہیں زد ہو)

صرف کرایہ دار افراد

مالک مکان کا نام، پتہ اور فون نمبر سیکشن C میں فرایم کیا جائے

یوٹیلیٹی کی معلومات (سیکشن D):

صارف کی ایندھن/توانائی کے دستخط شدہ بل جاری کرنے کی اجازت

مکمل بجلی بل کی کاپی شامل کریں

مکمل گیس یوٹیلیٹی بل یا پروپین، تیل، مٹی کے تیل، لکڑی یا کوئلے سے گرم کرنے پر ایندھن فرایم کنندہ کے بل کی کاپی شامل کریں

آمدنی کی معلومات (سیکشن F اور G):

اس بات کی تصدیق کرلیں کہ تمام مطلوبہ خانے مکمل کیے گئے ہوں

آبادیاتی معلومات (سیکشن H): اختیاری

اختیاری

درخواست دیندہ کی توثیق (سیکشن I):

پڑھ کر دستخط کریں

فائندہ منڈ پروگرام کے لنکس:

EmPower+ پروگرام اور اس کی پیشکشوں کے بارے میں مزید جانتے کے لیے، براہ کرم یہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں: nyserda.ny.gov/empower

• آن لائن درخواست فارم کا استعمال کر کے EmPower+ میں درخواست دینے کے لیے، براہ کرم یہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں: nyserda.ny.gov/empower-apply

• +rewopmE کے شرکت کنندہ ٹھیکیدار کا پتہ لگانے کے لیے، براہ کرم یہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں: nyserda.ny.gov/Contractors/Find-a-Contractor/Empower-Plus-Contractors

• اضافی معلومات اور مدد کے لیے، براہ کرم علاقہ کے صاف توانائی کے مرکز (Region Clean Energy Hub) سے رابطہ کریں: nyserda.ny.gov/All-Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs

• آمدنی کے لحاظ سے ابیلت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم یہ لنک ملاحظہ کریں: nyserda.ny.gov/empower-income

براہ کرم درخواست فارم اس پتہ پر ارسال کریں:

TRC کمپنی
3 Corporate Drive, Suite 202
Clifton Park, NY 12065

EmPower+ کی جانب سے کم اور اوسط آمدنی والے گھروں کو توانائی کی بہتری کے لیے مراعات فراہم کی جاتی ہے۔ اس درخواست کے ذریعہ آپ کی گھریلو آمدنی کی بنیاد پر ان مراعات کا تعین کیا جائے گا جن کے لیے آپ اپل بیس۔

سیکشن A: درخواست دبندہ کی معلومات

درخواست دبندہ کا نام

پتہ
اپارٹمنٹ #
NY
ریاست
زپ
شہر

کاؤنٹی

فون نمبر (ایریا کوڈ شامل کریں) سکینٹری فون (ایریا کوڈ شامل کریں)

ای میل ایڈریس (درکار)

ڈاک کا پتہ (اگر مذکورہ بالا پتہ سے مختلف ہو)

اضافی رابطہ کار شخص
درخواست دبندہ سے رشتہ
فون نمبر (ایریا کوڈ شامل کریں)

سیکشن B: ربانش کی معلومات

- ذیل میری ملکیت ہے
 میں اسے کرایہ پر دیتا/دیتی ہوں اور اپنی سہولیات کی برآ راست ادائیگی کرتا/کرتی ہوں
 میں اسے کرایہ پر دیتا/دیتی ہوں اور سہولیات کرائے کی فیس میں شامل ہیں
 اجتماعی گھر/بناہ گاہ نیار کردہ/موباٹل ہوم متعدد کنبے # یونٹس واحد کنبہ

سیکشن C: مالک مکان کی معلومات

مالک مکان کا نام

فون نمبر (ایریا کوڈ شامل کریں)

ای میل ایڈریس

کیا مالک مکان کا پتہ وہی ہے جو بلڈنگ کا پتہ ہے؟ بان نہیں - اگر "نہیں" تو برآ کرم نیچے مکمل پتہ درج کریں۔

پتہ

اختیاری: برآ کرم ایسی کوئی بھی معلومات درج کریں جو بمیں آپ کی توانائی کی کیپت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو اور مقیم افراد کی صحت کے مسائل یا خصوصی ضروریات کو درج کریں جن سے بمیں اگاہ ہونے کی ضرورت ہے:

ریفر کرنے والی ایجنسیز اور EMPOWER+ کے ٹھیکیدار: اپنے کاروبار یا ایجنسی کا نام درج کریں۔

سیکشن D: یوٹیلیٹی کی معلومات

میری بنیادی حرارتی ایندھن ہے ہے:

- بجلی نیل مٹی کا تیل قدرتی گیس پروپین لکڑی پیلیش مجھے معلوم نہیں ہے
 دیگر: _____

میری ثانوی حرارتی ایندھن ہے ہے:

- بجلی نیل مٹی کا تیل پروپین لکڑی پیلیش میرے پاس ثانوی ایندھن نہیں ہے
 دیگر: _____

الیکٹرک یوٹیلیٹی: اگر آپ الیکٹرک بل ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں، تو درج ذیل معلومات فراہم کریں:

یوٹیلیٹی کا نام: _____

اکاؤنٹ نمبر: _____ # POD RG&E یا NYSEG ہو تو – _____

گیس کی یوٹیلیٹی: اگر آپ قدرتی گیس کی یوٹیلیٹی کے صارف ہیں اور بل ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں، تو درج ذیل معلومات فراہم کریں:

یوٹیلیٹی کا نام: _____

اکاؤنٹ نمبر: _____ # DOP RG&E یا NYSEG ہو تو – _____

بنیادی ایندھن فراہم کنندہ: اگر آپ قدرتی گیس یا بجلی کے علاوہ کسی دیگر ایندھن سے حرارت حاصل کرتے ہیں تو درج ذیل معلومات فراہم کریں:

کمپنی کا نام: _____

اکاؤنٹ نمبر: _____

سیکشن E: پارٹر کی معلومات

اگر آپ NYSERDA کے توانائی کفاہتی پروگرام میں شریک مخصوص پروگرام کٹٹریکٹرز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم نیچے نشاندہی کریں۔ ہم آپ کی درخواست کو شامل کرنے کے لیے کام کریں گے، لیکن حتیٰ انتخاب شرکت کنندہ پروگرام کٹٹریکٹر کی دستیابی اور آپ کے پروجیکٹ کی قبولیت پر منحصر ہے۔ اگر آپ کسی پروگرام کٹٹریکٹر کے ساتھ کام نہیں کر رہے، تو ہم اپنی منظور شدہ فہرست میں سے دوسرے دستیاب شرکت کنندہ پروگرام کٹٹریکٹر کی تفویض کریں گے یا آپ درج ذیل لذک پر بمارے شرکت کنندہ کٹٹریکٹرز میں سے کسی کو منتخب کر سکتے ہیں:
nyserda.ny.gov/Contractors/Find-a-Contractor/Empower-Plus-Contractors

کٹٹریکٹر کا نام: _____

NYSERDA توانائی کے پیشہ ورانہ مشیروں کے نیٹ ورک سے تعاون کرتا ہے جو ممکن ہے کہ اس پروگرام، یوٹیلیٹی کے دیگر پروگرامز، یوٹیلیٹی کی پیشکش، اور دیگر مقامی وسائل میں پہلے سے ہی آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ فی الحال NYSERDA بے صاف توانائی کے مرکز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو براہ کرم نیچے بنائیں۔ پروگرام کی طرف سے ان کے ساتھ پروجیکٹ کی محدود معلومات کا اشتراک کیا جائے گا تاکہ وہ بر قدم پر آپ کی مدد کرتے رہیں۔
nyserda.ny.gov/All-Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs: _____

صفاف توانائی کے مرکز کا نام اور/یا تنظیم: _____

سیکشن F: آمدنی کے دستاویزات - براہ کرم مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کو منتخب کریں

اے۔ ریفل کا خط: اگر آپ کو NYSERDA کی طرف سے ریفل کوڈ کے ساتھ خط موصول بوا ہو، تو اسے نیچے درج کریں۔ اگر آپ کو ریفل کوڈ ملا ہے تو آمدنی کے اضافی دستاویزات مطلوب نہیں ہیں۔

ریفل کوڈ #: _____

بی۔ مندرجہ ذیل میں سے ایک کی کاپی فرایم کریں: SNAP (فود استامپ)، HEAP (ضرورت مند خاندانوں کے لیے عارضی امداد) یا گذشتہ 12 مہینے کے اندر کی اضافی آمدنی کے تحفظ کے لیے پورے ایوارڈ لیٹر کی کاپی۔ آمدنی کے اضافی دستاویزات مطلوب نہیں ہیں۔

سی۔ اگر مذکورہ بالا اے با بی کا اطلاق نہیں ہوتا، تو نیچے دیے گئے اختیارات میں سے کسی ایک کے تحت آمدنی کے دستاویزات فرایم کریں:

اختیار 1

• تنخواہ کی رسیدیں: گذشتہ 60 دنوں کی پوری گھریلو مجموعی آمدنی۔ اگر آمدنی درج ذیل نواعت کی ہو، تو کل مابانہ آمدنی کا حساب لگانے کا طریقہ حسب ذیل ہوگا:

- بفتحہ واری: 4 سب سے حالیہ بفتون کی نمائندگی کرنے والی بفتحہ وار آمدنی کو 4.3 سے ضرب کریں
- دو بفتحہ واری: مسلسل 2 حالیہ بفتون کو 2.15 سے ضرب دیں۔
- مہینے میں دو مرتبہ: 2 سے ضرب دیں۔

• سماجی تحفظ اور/ایا معدوری کا سماجی تحفظ: ایوارڈ لیٹر کی کاپی

• تمام اقسام کی آمدنی کے دستاویزات۔ اس میں معدوری، مزدور کا معاوضہ، بے روزگاری کا بہتہ، پنشن، نان و نفقة، سالانہ سود، سابق فوجیوں کے فوائد اور دیگر تمام آمدنیاں شامل ہو سکتی ہیں۔

• ذاتی ملازمت: گذشتہ تین مہینوں کی سہ ماہی آمدنی کی IRS رپورٹ

اختیار 2

• ٹیکس ریٹرن: یہ اختیار صرف، اس صورت میں دستیاب ہوتا ہے جب گھر کے ایسے تمام افراد نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے۔ اگر ٹیکس ریٹرن کے ساتھ آمدنی کے دستاویزات تیار کرتے ہیں، تو آمدنی کے تمام ذرائع کو ٹیکس ریٹرن کے ساتھ درج کیا جانا چاہیے۔ ٹیکس ریٹرن سب سے تازہ فیڈرل انکم ٹیکس ریٹرن (فارم 1040EZ، 1040A، یا 1040) ہونا چاہیے۔ اگر کرایہ، کاروبار یا فارم کی آمدنی کے دستاویزات درج کر رہے ہیں - تو آپ کو متعلقہ شیٹوں (شیٹوں C، E، اور F) جمع کروانے چاہیے۔

سیکشن G: آمدنی کی معلومات

گھرانے کے افراد کی کل تعداد کتنی ہے؟

اگر درج بالا میں سے آپشن اے با بی استعمال کرتے ہوئے درخواست دے رہے ہیں تو صرف پورا نام، صنف، عمر اور طالب علم درج کریں۔ اگر آپ نے آپشن سی منتخب کیا تو پورا ثیبل مکمل کریں۔

گھر کے بر فرد کی مندرجہ ذیل معلومات شامل کریں۔ صنف کے لئے براہ کرم درج ذیل استعمال کریں:

1. ذاتی شناخت کردہ مرد، 2. ذاتی شناخت کردہ عورت، 3. دیگر

| سالانہ | مابانہ | بفتحہ واری | آمدنی کے ذرائع | طالب علم (بیان یا نہیں) | عمر | صنف | مکمل نام |
|--------|--------|------------|------------------------|----------------------------|-----|-----|----------|
| \$ | \$ | \$ | | | | | |
| \$ | \$ | \$ | | | | | |
| \$ | \$ | \$ | | | | | |
| \$ | \$ | \$ | | | | | |
| \$ | \$ | \$ | | | | | |
| \$ | \$ | \$ | | | | | |
| \$ | \$ | \$ | | | | | |
| \$ | \$ | \$ | | | | | |
| \$ | \$ | \$ | | | | | |
| \$ | \$ | \$ | گھرانے کی مجموعی آمدنی | | | | |

مقامی کمیونٹیز پر ہمارے پروگرام کے اثرات کو سمجھنے میں NYSERDA کی مدد کرنے کے واسطے، براہ کرم نیچے پوچھے گئے آبادیاتی سوالات کو مکمل کریں۔ ان سوالات کا جواب دینا اختیاری ہے اور اس سے آپ کے پروگرام کی ابیت متأثر نہیں ہوتی ہے۔

گھرانے کے مندرجہ اوصاف کے حامل افراد کی تعداد درج کریں:

60 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد: _____ معذور: _____ سابقہ/موجودہ فوجی ملازمت والے افراد: _____

اگر درخواست کنندہ پر درج ذیل کا اطلاق ہوتا ہو تو نشاندہی کریں: (کم از کم ایک کو منتخب کریں، اور جتنا زیادہ قابل اطلاق ہو منتخب کریں)

- جواب نہ دینا پسند ہے
 مقامی امریکی / فرسٹ نیشن / ال اسکا کا باشندہ
 ایشیائی
 سیاہ فام یا افریقی امریکی
 سفید فام
 نامعلوم
 دیگر

اگر درخواست کنندہ پر درج ذیل کا اطلاق ہوتا ہو تو نشاندہی کریں:

- نامعلوم
 پسپانوی، لاطینی یا اسپینش آبائیت
 جواب نہ دینا پسند ہے
 پسپانوی، لاطینی یا اسپینش آبائیت نہیں

اس بات کی نشاندہی کریں کہ گھرانے میں کتنے افراد پر درج ذیل کا اطلاق ہوتا ہے: (کم از کم ایک کو منتخب کریں، اور جتنا زیادہ قابل اطلاق ہو منتخب کریں)

تعداد نسل

امریکی انڈین یا ال اسکا کے مقامی فرد _____

ایشیائی _____

سیاہ فام یا افریقی امریکی _____

بوائی کا مقامی باشندہ یا دیگر پیسیفک جزیرے کا باشندہ _____

سفید فام _____

کثیر نسلی (درج بالا میں سے دو یا زائد) _____

دیگر _____

جواب نہیں دینا چاہتے _____

بنیادی درخواست گزار سمیت گھرانے کے ارکان کی قومیت درج کریں:

تعداد قومیت

پسپانوی، لاطینی یا اسپینش آبائیت _____

پسپانوی، لاطینی یا اسپینش آبائیت نہیں _____

نامعلوم _____

جواب نہیں دینا چاہتے _____

اپنی ابیلت کے فیصلے اور اس درخواست فارم پر فرایم کردہ معلومات، معاون دستاویزات بشمول آمدنی کے دستاویزات، نیز اپنے پروجیکٹ کی حالت سے متعلق معلومات درج ذیل کو جاری کرنے کی اجازت دیتا/دیتی ہوں: NYSERDA اور اس کے نمائندے، جس حد تک میرا پراجیکٹ وفاقی فنڈنگ وصول کر رہا ہے، اس حد تک محاکمه توافقی اور اس کے نمائندے؛ NYS کے موسمیاتی امداد کے پروگرام (WAP) اور/یا اس کے نامزد نمائندے؛ NYSERDA کے پروگرام کی جانب سے کام کرنے والی کمیونٹی کی کوئی بھی تنظیم، بجلی اور قدرتی گیس کی یوٹیلیٹی، اور مندرجہ ذیل افراد یا تنظیم:

اور جمع کروانے میں اپنی مدد کرنے کے مقصد سے مشغول کیا ہے۔

جن کو میں نے درخواست مکمل کرنے میں اپنی مدد کرنے کے مقصد سے مشغول کیا ہے۔

شریک فرد ریاست نیو یارک کے محکمہ برائے پبلک سروس کے عملے اور مناسب مقامی سہولت، بشمول اس کے ایجنسیاں یا مجاز نمائندگان کی ریاست نیو یارک کے پبلک سروس کمیشن کے احکامات کے تحت نہہ داریاں پوری کرنے کے لئے ان کے ساتھ شریک فرد کی بطور گابک معلومات اور/یا پراجیکٹ کی سطح کی معلومات کا اشارا کے متفق ہے اور اس کی اجازت دیتا/دیتی ہے۔ (وضاحت کے لئے، پراجیکٹ کی سطح کی اصطلاح میں پراجیکٹ کے دائیرہ کار پر مبنی معلومات شامل ہیں، بشمول مگر بلا تحدید، پوری عمارت، پراجیکٹ کی عمارت یا ذیلی سیٹ)۔

میں سمجھنا/سمجھتی ہوں کہ میری طرف سے فرایم کردہ معلومات کا استعمال مجھ سے رابطہ کرنے یا کسی بھی موجودہ یا مستقبل کے پروگرام کی پیشکش کو استعمال کرنے میں میری مدد کرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے جس کے لیے میں اپل بو سکتا/سکتی ہوں اور/یا یوٹیلیٹی ربانشی پروگرام اور مالی مراعات کے لیے ابیلت کا تعین کرنے NYS WAP کے لیے ابیلت کا تعین کرنے، توافقی کی بچت کی صلاحیت کا تخمینہ لگانے، اور معافہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ میں سمجھنا/سمجھتی ہوں کہ تمام معلومات کو قانون کے تحت جائز حد تک رازدارانہ رکھا جائے گا۔ میں سمجھنا/سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے NYSERDA کے ربانشی پروگرام یا NYS WAP کے ذریعے خدمات فرایم کی جاتی ہیں، تو ان پروگرامز میں میری شرکت سے میرے سماجی تحفظ، عوامی امداد، یا کوئی دوسری آمدنی متاثر نہیں ہوگی۔

میں سمجھنا/سمجھتی ہوں کہ یہ درخواست اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ مجھے امداد دی جائے گی۔ خدمات فرایم کی جائے یا نہیں کی جائے اس کا انحصار موصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد اور فنڈر کی دستیابی نیز پروگرام کی مقررہ ترجیحات پر ہوگا۔

میں NYS WAP کے نمائندوں، اور آزاد شرکت کنندہ ٹھیکیداروں کو پروگرام کی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے جن میں توافقی کے معافے، اقدامات کی تنصیب، کوالٹی ایشورنس، اور معافے کی سرگرمیاں شامل ہیں، ایسے اوقات میں اپنی ربانش گاہ تک رسانی فرایم کرنے سے متفق ہوں، جو باہمی طور پر قابل قبول ہوں۔ میں سمجھنا/سمجھتی ہوں کہ شرکت کنندہ ٹھیکیدار آزاد ٹھیکیدار ہوتے ہیں اور مکمل کیے گئے کی محدث پر ایک سال کی وارثتی فرایم کرتے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھنا/سمجھتی ہوں کہ شرکت کنندہ ٹھیکیدار اور وینڈرز کسی بھی فرایم کردہ سامان پر مناسب وارثتی دین گے اور یہ کہ NYS WAP کی طرف سے کوئی اضافی وارثتی فرایم نہیں کی جائے گی۔

میں قانونی تعزیرات کے تحت سبسکرائب کرتا/کرتی ہوں اور تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ کسی بھی معاون دستاویزات پر درج کیے گئے بیانات سمیت اس درخواست فارم کے تمام حصوں میں دیے گئے بیانات کو میری طرف سے جانچ کیا گیا ہے اور میرے علم کے مطابق وہ درست اور مکمل ہیں۔

میں سمجھنا/سمجھتی ہوں کہ اس فارم پر میرے دستخط سے NYS WAP کے نمائندوں اور ان کے نامزد ابلکاروں کو NYSERDA کے پروگرام اور NYS WAP کے لیے میری ابیلت کو یقینی بنائے کی اجازت ملتی ہے۔ میں نے جو معلومات فرایم کی بین ان کی تصدیق یا توثیق کے لیے میں کسی بھی انکوائری سے اتفاق کرتا/کرتی ہوں۔ میں سمجھنا/سمجھتی ہوں کہ اگر میں غلط معلومات فرایم کروں یا وہ فوائد حاصل کرنے کے لیے معلومات کو چھپاں، جن کا میں مستحق نہیں ہوں،

تو میرے خلاف قانون کے تحت مکمل چارہ جوئی کی جاسکتی ہے۔ میرا بھی کہنا ہے کہ اس درخواست فارم میں نامزد کردہ کوئی بھی شخص امیگریشن ریفارم اینڈ کنٹرول ایکٹ 1986 (عوامی قانون 99-063) کے تحت موسمیاتی خدمات کے لیے ناپالی کے دائیرے میں نہیں ہے۔

تاریخ

درخواست دیندہ کے دستخط

تاریخ

درخواست دیندہ کے نمائندہ کا دستخط

آپ کے رابطے کی معلومات NYSERDA کے تحت دیگر ربانشی پروگرام کو شینر کی جا سکتی ہیں۔ اس سے آپ آٹھ کرنے کے لیے، براہ کرم پہاں پر دستخط کریں:

صرف داخلی استعمال کے لیے

- جائزہ کنندہ: EmPower HEAP OFA HEAP بولٹیلٹی ویدرائیشن سب گرانٹی دیگر:
- گھرانے کو منے والے تمام فوائد نشان زد کریں: TANF SNAP HEAP SSI
- درخواست دیندہ کی فرایم کردہ معلومات کی بنیاد پر، گھرانے کے لیے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے:
- ویدرائیشن کے لیے ابل ہے ویدرائیشن کے لیے ابل ہے
 کم آمدنی والوں کی خدمات کے لیے ابل ہے کم آمدنی والوں کی خدمات کے لیے ابل ہے
 کم آمدنی کے لیے ابل ہے، لیکن ویدرائیشن کے لیے ویٹ لسٹ میں ہے
- یہاں مناسب خانے میں نشان لگائیں:
- کیا گھرانے کو پہلے ویدرائیشن کی خدمت حاصل تھی
 گھرانہ EmPower+ کی طرف سے مزید خدمات کے لیے ناابل ہے

اضافی ملاحظات:

تاریخ

عبدہ

+EmPower کے نمائندے کے دستخط



NYSERDA